



مناسب انداز سے اس کے مال میں سے اتنا لے لو، جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہے

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کے رسول کے پاس آئیں اور کہیں: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہے، تاہم میں اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے لیتی ہوں کیا اس میں میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مناسب انداز سے اس کے مال میں سے اتنا لے لو، جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہے“
[صحیح] [متفق علیہ]

ہند بنت عتبہ نے رسول اللہ سے فتویٰ مانگا کہ ان کا شوہر انہیں اتنا خرچ نہیں دیتا، جو ان کے اور ان کی اولاد کے لیے کافی ہے، تو کیا وہ اپنے شوہر ابو سفیان کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار اچھے طریقے سے لینے کے جواز کا فتویٰ دیا، جو ان کے لیے کافی ہے یعنی زیادتی اور تعدی نہ ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2965>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

